

## Dua Zuhoor

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے

In the name of God, the Beneficent, the Merciful

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ۔

God bless Muhammad and his family

اللہ کی رحمت ہو محمد اور ان کی آل پر

اَلِهٰی اَلْاَمٰنُ اَلْاَمٰنُ یَوْمَ لَا یَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا یَسْتَقْدِمُوْنَ۔

My God, give protection, protection "on the Day that you (people) cannot delay by a single hour, nor advance." (Qur'an 34: 30)

اے خدا امان دے امان، اس قیامت کے روز عذاب سے جس دن کو لوگ اک ذرا سے لمحہ بھر کے لئے نہ آگے بڑھا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹا سکتے ہیں

اَلِهٰی اَلْاَمٰنُ اَلْاَمٰنُ عِنْدَ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ وَعِنْدَ مَفَارِقَةِ الرُّوْحِ  
وَعِنْدَ مُعَايِنَةِ الْمَوْتِ۔

My God, give protection, protection at the time of oppressive sensation of death, the separation of the spirit, and when seeing death eye to eye

اے خدا امان دے امان، جبکہ لمحہ آخر ہو اور روح جسم سے الگ ہو رہی ہو اور موت آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہو

اَلِهٰی اَلْاَمٰنُ اَلْاَمٰنُ عِنْدَ حَوْلِ الْمَطَّلَعِ وَعِنْدَ الْوُقُوفِ يَدَيْكَ۔

My God, give protection, protection when all will be standing before You

اے خدا امان دے امان، جب سب (ہاتھوں میں نامہ اعمال لئے) تیرے سامنے کھڑے ہوں گے

اَلِهٰی اَلْاَمٰنُ اَلْاَمٰنُ بِحَوْلِ الْقِيَمَةِ وَشِدَا ئِهَا۔

My God, give protection, protection from the terror of the (day of) resurrection

اے خدا امان دے امان، یوم قیامت کے ہول اور اضطراب سے

اَلِهٰی اَلْاَمٰنُ اَلْاَمٰنُ یَوْمَ یَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ۔

My God, give protection, protection, "On the Day in which humans will be like scattered moths."

(Qur'an 101: 4)

اے خدا امان دے امان، اس دن سے جب کہ انسان ٹڈیوں کی طرح پھیلے ہوں گے

اَلِهٰی اَلْاَمٰنُ اَلْاَمٰنُ یَوْمَ یَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

My God, give protection, protection, "On the Day in which men will stand before the Lord of the

worlds." (83: 6)

اے خدا امان دے امان، اس دن جب کہ سارے انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے

إِلٰهِىَ الْاٰمَانُ الْاٰمَانُ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ.

My God, give protection, protection, "On the Day when (some) faces whiten (bright) and (some) blacken."

(3: 106)

اے خدا امان دے امان، اس دن جب کہ کچھ شکلیں چمکیں گی اور کچھ چہرے کالے ہوں گے

إِلٰهِىَ الْاٰمَانُ الْاٰمَانُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاٰمِهِ وَاٰبِيهِ  
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ اِمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.

My God, give protection, protection, "On the Day a man will flee from his own brother, and from his mother and father, and from his spouse and children. For every man on that day his affair will suffice him." (80: 34, 37)

اے خدا امان دے امان، جس روز لوگ اپنے بھائی، ماں و باپ، بیوی اور اولاد سے گریز کریں گے۔ اُس روز ہر فرد صرف اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔

إِلٰهِىَ الْاٰمَانُ الْاٰمَانُ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ  
اِلَّا مَن اٰذِنَ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا.

My God, give protection, protection, "On the Day the Spirit and the angels will stand in rows, and none shall speak except those permitted by the most Gracious, and they shall say what is right." (78: 38)

اے خدا امان دے امان، جس دن روح (جبرئیل) اور تمام فرشتے باادب کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہ کرے گا سوائے وہ جسے اجازت ہوگی اور وہ ٹھکانے کی بات کرے گا۔

إِلٰهِىَ الْاٰمَانُ الْاٰمَانُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاۤهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا.

My God, give protection, protection, "On the Day when a man will see what his hands have sent before him, and the disbeliever will say, "Would that I were dust." (78: 40)

اے خدا امان دے امان اس دن جب ہر آدمی اپنے ہاتھوں کا اعمال دیکھے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔

إِلٰهِىَ الْاٰمَانُ الْاٰمَانُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا.

My God, give protection, protection, "On a Day whose measure is fifty thousand years. So be patient with beautiful patience." (70: 4,5)

اے خدا امان دے امان، اس دن کے عذاب سے جس کی مدت پچاس ہزار سال ہوگی۔ (کہا جائے گا) صبر سے کام لو اچھا صبر

إِلَهِي الْأَمَانُ الْأَمَانُ يَوْمَ يَوْمُ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ  
وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيُّدُهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  
ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَلظِّي نَزَاعَةٌ لِلشَّوَى -

My God, give protection, protection, "On the Day in which the one who is guilty would like to ransom himself from the punishment of the Day at the price of his own children, spouse, brother, and kin who sheltered him, and all who are on the earth, that it might save him. But it is a churning fire, ripping away the scalp." (70: 11-16)

اے خدا امان دے امان اُس دن کے عذاب سے جس دن گنہگار آرزو کریں گے کہ اگر آج کے عذاب کے بدلے ہمارے بچے، بیوی، بھائی اور دوسرے اہل کنبہ جنہوں نے مدد کی، (بلکہ) دنیا کے تمام انسانوں کو بھی لے لیا جائے تاکہ وہ چھوٹ جائیں، مگر یہ ہرگز نہ ہوگا۔ دوزخ کی شعلہ زار آگ (کھال) کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔

إِلَهِي الْأَمَانُ الْأَمَانُ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ -

My God, give protection, protection, "On the Day when the quaker quakes and successor follows upon it. Hearts on that Day will tremble with the eyes humbled." (79: 6-9)

اے خدا امان دے امان، اُس دن کے عذاب سے جب زمین لرزے گی، دل کانپتے ہوں گے اور شرم و خوف سے آنکھیں نیچی ہوں گی

إِلَهِي الْأَمَانُ الْأَمَانُ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا -

My God, give protection, protection, "When the angels will say, 'no glad tidings' for the guilty on that Day. They will say, 'A barrier forbidden.'" (25: 22)

اے خدا امان دے امان، جب کہ فرشتے کہیں گے کہ آج سزاواروں کو خوش نصیبی نہیں مل سکتی اور بولیں گے کہ جہنم میں جاؤ۔

إِلَهِي الْأَمَانُ الْأَمَانُ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي  
أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لِمَ أَتَّخَذْتُ فُلَانًا خَلِيلًا -

My God, give protection, protection, "On the Day the wrongdoer will bite his hands, saying 'would that I had taken a way with the Messenger. Woe unto me! would that I had not taken so-and-so for a friend.'" (25: 27-29)

اے خدا امان دے امان، اس روز کے عذاب سے جس دن تائب کے مارے ظالم اپنے ہی ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ہوتا (دین پر) اور کسی دوسرے کو دوست نہ بناتا

إِلَهِي الْأَمَانُ الْأَمَانُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ -

My God, give protection, protection, "On the Day when neither wealth nor children avail, save for him who comes with a sound heart." (26: 88-89)

اے خدا امان دے امان، اُس دن کی رسوائی سے کہ جس دن نہ اپنا مال و اسباب ہی کام آئے گا اور نہ ہی بال بچے نجات بنیں گے۔ مگر جو خدا کے پاس مخلص و پاک دل لے کر آئے گا وہی نفع میں رہے گا۔

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ-

By Your Mercy, O the most Merciful of the merciful

اللہ کی رحمت سے جو سب سے زیادہ رحیم ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَوْجُودُ فِي كُلِّ زَمَانٍ

There is no god but God, who can be found in every time (period).

کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے اور وہ ہر دور میں موجود ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَعْبُودُ فِي كُلِّ مَكَانٍ

There is no god but God, who is worshipped in every land

کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے اور اُس کے علاوہ کہیں بھی کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَعْرُوفُ بِإِحْسَانٍ

There is no god but God, who is known through His Kindness

کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے اور اُس کے علاوہ کوئی اور کرم و احسان کرنے والا نہیں ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْآمَانُ الْأَمَانُ

There is no god but God. Protection, give protection.

کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے امان دے ہمیں امان دے۔

يَا دَائِمَ الْمَعْرُوفِ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ يَا هَادِيَ الْمَضِلِّينَ

O perpetually kind; O eternally Beneficent; O guide of those gone astray

اے ازل سے مہربان، اے ہمیشہ سے احسان کرنے والے، اے بے راہروں کو ہدایت دینے والے

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-

"You do we worship and from You do we seek help." (1: 5)

ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

يَا غَفُورٌ يَا غَفَّارٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ-

O Forgiving, O all-Forgiving; by Your Mercy; O most Merciful of the merciful

اے گناہ بخشنے والے، اے غفور، اپنی رحمت کے سبب سے، سب سے زیادہ رحیم کرنے والے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ-

Blessing of God be upon Muhammad and his Family.

اللہ کی رحمت ہو محمد پر اور ان کی تمام آل پر۔

Source: P.E.T. Publications, Karachi, Pakistan. Author of the Dua not available. The verses of the Qur'an provided by

a Mumina who wishes to remain anonymous, and quoted mostly from "The Study Qur'an." Editor-in-Chief: Seyyed

Hosseini Nasr. HarperOne 2015.

Presented by Syed Akhtar